

سوال

عمر خیام کون اور اس کا عقیدہ کیا ہے ؟
آپ سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں -

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

1 - نام و نسب :

ابوالفتح عمر بن ابراہیم الخیامی النیساپوری جو کہ ایک شاعر اور فلسفی تھا نیشاپور میں ہی پیدا ہوا اور وہیں وفات پائی -

2 - ولادت : وہ نیشاپور بستی 408 ھ میں پیدا ہوا اور وہیں 517 ھ میں دفن ہوا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 515 ھ میں دفن ہوا -

3 - یہ ریاضیات اور فلکیات اور لغت اور فقہ اور تاریخ کا عالم تھا

4 علم فلکیات کا ماہر ہونے کی وجہ سے اسے بغداد میں ادراہ فلکیات کا چٹرمین مقرر کیا گیا ، اور فلسفہ میں شدت کی بنا پر اس کا نام ابن سینا کے ساتھ ملا دیا گیا جس کے ایسے اقوال کفریہ اقوال ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں -

5 - اسی طرح یہ اپنے شعروں کے ساتھ بھی بہت معروف ہے ، اس کے مشہور اشعار میں اس کی رباعیات ہیں جو کہ کفر اور باحیات یعنی حرام چیزوں کو حلال کرنے اور زندگی سے بھری ہوئی ہیں -

اور اس میں کوئی تجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ کفار نے ان اشعار کو طبع کر کے نشر کیا ہے اور اسے کئی زبانوں میں ترجمہ

کروا کر شائع بھی کر دیا مثلاً انگلش ، فرینچ ، روسی ، جرمنی ، وغیرہ زبانوں میں -

اور انگریز نے خیام کی رزیل قسم کی رباعیوں اور اس میں جو فحش گوئی کی ہے اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور ان ممالک

میں جہاں پر ان کا قبضہ ہوا وہاں اس نسبت سے شائع کیا کہ یہ ایک مسلمان عالم دین کی کلام ہے مثلاً ایران اور ہدوستان وغیرہ میں -

6 - شراب کے متعلق وہ ایک رباعی میں کہتا ہے :

شراب پیو جو کہ فرحت اورخوشی کی روح ہے ، نفس اوراندرونی بیماریوں کو لے جانے والی ہے -

اورجب بھی تجھے ہم وغم کا طوفان گھیرلے تو اس شراب میں نجات حاصل کرکیونکہ وہ سفینہ نوح ہے -

7 - موت کے بعد حشرونشر کا انکار کرتے ہوئے کچھ اشعار اس طرح کہتا ہے :

غم کے حملہ سے پہلے جلدی اٹھ جا اوراس کے ساتھ وردیہ کوبلا توادھیرے دور ہوجائیں گے -

اے کند ذہن والے توکوئی سونا نہیں کہ زمین میں دبا دیا جائے اورپھر نکال لیا جائے -

8 - اوراس کی اباحیات یہ ہیں :

جتنی بھی طاقت رکھتے ہو فحاشی کرو اور صوم وصالہ کی عمارت منہدم کردو اورخیام سے سب سے اچھی بات سنو ، شراب نوشی کرو اورگانے گاؤ اورخیرات کی طرف چلو -

9 - اس کی شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق اوراپنے رب کے سامنے جرات وبے باکی اور توبہ پر اپنے موقف کے بارہ میں اشعار کہتا ہے :

میں روزانہ توبہ کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ رات کوشراب نہیں پیئوں گا ، تومیرے پاس پھولوں کا موسم آیا ہے تو اے رب میں اس موسم میں اپنی توبہ کرنے سے بھی توبہ کرتا ہوں -

10 - بعض مقالہ نگاروں مثلاً زرکلی وغیرہ کا خیال ہے کہ اس نے توبہ کرنے کے بعد حج بھی کیا تھا -

اوربعض نے ان رباعیات کواس کی جانب منسوب کرنے میں شک کا اظہار کیا ہے ان میں عبدالحق فاضل شامل ہیں -

بہرحال جو بھی ہو اس کی رباعیات سے توپتہ نہیں چلتا کہ اس نے توبہ کرلی ہو ، اس لیے کہ اس کے اشعارمیں کفر کا اظہار اورفضائل سے تحلل کا اظہار کیا گیا ہے -

اور اسی طرح ان اشعار میں توبہ اوررجوع سے برات کا اظہار ہے بلکہ وہ اشعارتو اس پر بھی دلالت نہیں کرتے کہ وہ شاعر اللہ تعالیٰ اوریوم الآخر پر ایمان رکھتا ہے -

ان اشعار کو خیام کی طرف منسوب کرنے کے شک میں کوئی قوت نہیں اس لیے اس کی طرف منسوب کرنے والوں کی کثرت ہے ، اور حقائق تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ۔

اس کے حالات کے لیے دیکھیں :

زرکلی کی الاعلام (38 / 5) اور عمر رضا کحاله کی معجم المؤلفین (2 / 549) اور احسان حقی کی عمرالخیام بین الکفر والایمان ، اور عبدالحق فاضل کی ثوره الخیام ۔

اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائے ۔

واللہ تعالیٰ اعلم .